

Islamiat (New Book) - 9th Class Islamiat urdu mdeium ahadees

-وقت پر نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ Q1.

Ans 1: فرض نماز کے لیے مقررہ وقت شرط ہے۔ نماز انسان کو وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ نماز ادا کرنا اللہ رب العزت کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے گتابوں کو معاف فرمادیتا ہے۔ نبی کریم ارشاد بے پانچ نمازوں کی مثال نہر کی طرح ہے جس کا پانی صاف سترہ اور گبرا ہو، جو تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہو اور وہ اس میں بر روز پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو۔ کیا تم خیال کرو گئے کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ خاتم النبین نے ارشاد فرمایا۔ پانچ نمازوں کیتابوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔

-فرشتوں پر ایمان کے دو اثرات تحریر کریں۔ Q2.

Ans 1: فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان یہ بقین کر لیتا ہے کہ فرشتے اس کے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں اور ایک دن انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان اعمال کا جواب دینا ہے۔

Ans 2: اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا۔

آخرت کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ Q3.

Ans 1: عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ یہ بمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ نیکو کاروں کی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور برعے لوگوں کا تھکانہ جہنم ہو گا۔ قرآن مجید میں بار بار عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کی تکید کی گئی ہے۔

-قرآن و سنت کی روشنی میں نماز کی فرضیت بیان کریں۔ Q4.

Ans 1: نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز قرب الہی کا بہترین زریعہ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا زریعہ ہے۔ نماز بے حیاتی اور برائی سے روکنی ہے نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔

روزے کے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ Q5.

Ans 1: روزے رکھنے سے چہل اطمینان قلب اور صبر و شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے۔ 1- جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ بوجاتا ہے۔ 2- روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوہ و صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے گربا، مساکین اور دیگر ضرورت مددوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ 3- مقررہ وقت پر سحری اور افطار انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتی ہے۔

-ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ Q6.

Ans 1: قرآن مجید کی حفاظت اس لیے ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے اس سلسلے کو ختم فرمادیا۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں انے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: نبی بین (حضرت) مُحَمَّد (خاتم النبین) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبین ہیں۔ (سورہ الاحزاب: 40)

توحید کا معنی و مفہوم، فرضیت و اہمیت بیان کریں۔ Q7.

توحید کے لغوی معنی یاک ماننا اور یکتا جانتنا کے بین۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی زات و صفات اور جملہ و کمالات میں یکتا اور بے مثُل ماننا

اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبد نہیں ہے۔ وہ تمام عیوب سے پاک اور تمام کمالات کا مالک ہے۔ سوہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ اپنی زات و صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک له ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ حضرت امم علمیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں حتیٰ انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لانے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واحد یکتا ہونے کی تبلیغ کی۔ کوئی شخص عقیدہ توحید کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی وحدت کا اقرار کیے بغیر دائرة اسلام میں داخل نہیں بو سکتا۔

Q8. زات میں شرک سے کیا مراد ہے۔

Ans 1: اس سے یہ مراد ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا بمسر اور برابر سمجھنا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی زات کے سوا کسی اور کو ماننا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا اللہ تعالیٰ کی زات میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔

Q9. نماز کی فضیلت کے بارے میں دو جملے تحریر کریں۔

Ans 1: انفرادی نماز کے ساتھ ساتھ بجماعت نماز ادا کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین نے ارشاد فرمایا۔ بجماعت نماز اکبلے نماز سے ستائیں درجے افضل ہے۔ (صحیح بخاری: 645) ایک اور مقام پر آپ خاتم النبین نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء بجماعت ادا کرتا ہے تو اس کو ادھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے اور جو فجر جماعت کے سنتہ ادا کرتا ہے اس کو بقیہ ادھی رات کا ثواب مل جاتا ہے۔

Q10. مسجد میں بجماعت نماز ادا کرنے کے دو معاشرتی اثرات بیان کریں۔

Ans 1: مسجد میں بجماعت نماز ادا کرنے سے انسان محلے داروں اور دیگر نمازوں سے ملاقات کی وجہ سے ان کے حالات سے باخبر، دکھے درد سے اگاہ اور خوشی و غم کا احساس کر کرے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے انہی امور کا خیال رکنے سے انسانی معاشرہ ترقی پاتا ہے۔ نماز بمدردی، ایثار، اخوت و محبت اور رواداری جیسے جذبات پیدا کرتی ہے۔ خشوع و خضوع والی نماز اللہ تعالیٰ کے بال بہت پسندیدہ ہے۔